

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن، میونسپل الیکشن لڑنے والے افراد کے لیے معلوماتی نشستوں کا انعقاد کرے گا

برامپٹن، آن (31 مارچ 2022) – سٹی آف برامپٹن کی جانب سے 2022 کے میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات کے ممکنہ امیدواروں اور فریق ثالث مشنبرین کو بروز منگل، 12 اپریل 2022 کو شام 7 سے 10 بجے تک منعقد کی جانے والی ایک معلوماتی نشست میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

وزارت برائے میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ کے اشتراک سے منعقد کی جانے والی یہ معلوماتی نشست برامپٹن سٹی ہال میں کونسل چیئرمینز میں موقع پر اور ورچوئل میٹنگ کے طور پر منعقد ہو گی۔

اس نشست کے دوران اہم نوعیت کی بنیادی شرائط کا جائزہ لیا جائے گا، بشمول:

- امیدوار اور فریق ثالث مشنبرین کی اہلیت اور ذمہ داریاں
- نامزدگی اور رجسٹریشن کا عمل
- مہم کی مالیات
- اہم تاریخیں اور وسائل

یہ نشست ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو برامپٹن 2022 میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات میں امیدوار کے طور پر حصہ لینے یا تیسرے فریق کے مشنبر کے طور پر اندراج کرنے پر غور کر رہا ہو۔ معلوماتی نشست کے لیے اندراج کرانا لازمی ہے۔ ذاتی طور پر یا ورچوئل طور پر Webex کے ذریعے حاضری کا اندراج کرنے کے لیے brampton.ca/bramptonvotes ملاحظہ کریں۔

فوری حقائق:

- امیدوار یا تیسرے فریق ثالث کا مشنبر بننے کے حوالے سے معلومات یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں
- امیدواروں کی نامزدگی کا دورانیہ 2 مئی کو شروع ہو گا اور 19 اگست کو بوقت دن 2 بجے کو ختم ہو جائے گا
- تیسرے فریق کے ایڈورٹائزر کی رجسٹریشن 2 مئی کو شروع ہو گی اور 21 اکتوبر کو بند ہو گی
- رائے دہی کا دن 24 اکتوبر ہے
- نامزد شدہ امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریقین کے لیے اگلی معلوماتی نشست کا انعقاد ستمبر 2022 میں ہو گا۔

اقتباس

"سٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی یہ معلوماتی نشست، جس کی میزبانی میونسپل افیئرز اور ہاؤسنگ کی وزارت کی جانب سے کی گئی ہے، اس کے دوران ممکنہ امیدواروں کو 2022 کے میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں اپنی نامزدگی داخل کرنے کے حوالے سے بہتر سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے گی اور اس میں ممکنہ تیسرے فریق کے مشنبرین کی رجسٹریشن کی شرائط پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ہم ہر اس شخص کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں جو اس حوالے سے مزید جاننا چاہتا۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور 2022 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca